


١٥٠٠

١٥٠٠



✎ Espen Stranger-Johannessen
 Sara Rumen Krotev
 📄 Yasir Tayyab
 2
 🗣️ / norsk nb



LIDA Stories

lidastories.net


١٥٠٠ / ١٥٠٠ skaffe medisiner

✎ Espen Stranger-Johannessen

Sara Rumen Krotev

📄 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-


Johannessen (nb)



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)


<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



ٹم کو دانت کا درد ہے۔ اس کے دانت میں بہت تکلیف ہے۔

...

Tom har tannpine. Han har veldig vondt i en tann.



”آپ کا شکریہ! خدا حافظ۔“


...

«Tusen takk! Ha det.»

«Hvis du trenger sterkere medisin, må du ha en resept fra tannlegen eller legen din.»

...


”اگر آپ کو بہتر دوا کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے نسخہ لینے کی ضرورت ہوگی۔“
دانتوں کے ڈاکٹر سے نسخہ لینے کی ضرورت ہے۔




Han må gå til tannlegen, men først trenger han noe for å dempe smertene.

...

اسے اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے ملنا ہے، لیکن پہلے اسے درد کے لیے کسی دوا کی ضرورت ہے۔






وہ گڑی پر قریب ترین فرمیسی میں جتا ہے۔

...

Han kjører til nærmeste apotek.



“ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے
رابطہ کروں گا۔”


...

«OK, jeg skal ringe tannlegen i morgen
tidlig.»

«De koster ni euro. Men du bør gå til tannlegen.»

...


ان کی قیمت تو تورو ہے۔ لیکن آپ کو دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا جائے۔“




«Jeg har tannpine», sier han. «Har du noe for det?»

...


مخمس دانت میں درد ہے، ”وہ کہتا ہے۔“ ”آپ کس سے اس کے لئے کوئی دوا لے رہے ہیں؟“





“جی ہں، یہ درد ختم کرنے والی کچھ ادویت ہیں۔ ان کے لیے آپ کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔”
...

«Ja, her er noen smertestillende
tabletter. Du trenger ikke resept for
disse.»



“آپ ک شکر یہ۔ ان کی قیمت کی ہے؟”
...

«Tusen takk. Hvor mye koster de?»